

سوال

خاوند کی اولاد ان کے والد کی بیوی کے لیے محرم ہے

جواب

الحمد للہ

آپ کی بیوی کا آپ کی سالی کے خاوند کے بچوں سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں کیونکہ نہ تو وہ آپ کی سالی کی نبی اور نہ ہی رضاعی (یعنی دودھ کی) اولاد ہے، تو اس بنا پر آپ کی بیوی پر اس بچے سے پردہ کرنا واجب ہے کیونکہ وہ اس کے لیے اجنبی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اسی طرح آپ بھی اس بچی کے لیے اجنبی ہیں آپ کے لیے اس کے ساتھ خلوت کرنا حلال نہیں اور نہ ہی اس کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں، اور اس بچی کی لیے یہ حلال نہیں کہ وہ آپ سے پردہ نہ کرے بلکہ اس پر آپ سے پردہ کرنا واجب ہے۔ اور رہا مسلمان کے والد کی بیوی (یعنی جو آپ کی سالی ہے) کا تو اس پر کوئی واجب نہیں کہ وہ ان سے پردہ کرے اس لیے کہ وہ اس کے محرم ہیں، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا مندرجہ ذیل فرمان ہے:

فرمان باری تعالیٰ ہے:

ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیے ہیں، لیکن جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا

تو اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ انسان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے والد یا اپنے دادا کی منکوحہ سے شادی کر لے، چاہے وہ آباء و اجداد والد کی جانب سے ہوں یا پھر والدہ کی جانب سے ہوں، اور چاہے اس نے عورت سے دخول کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ جب مرد اپنی بیوی سے عقد صحیح کر لیتا ہے تو وہ عورت صرف اس عقد کی وجہ سے ہی اس کی اولاد اور اسی طرح اولاد کی اولاد پر بھی حرام ہو جاتی ہے چاہے وہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں (یعنی بیٹے، بیٹیاں، پوتے، پوتیاں، دھوتے دھوتیاں) اور اس سے بھی نیچے کی نسل۔ اھ

﴿591/2﴾

آپ اس کے لیے مزید تفصیل دیکھنے کے لیے سوال نمبر (20750) اور سوال نمبر (5538) کے جوابات کا بھی مطالعہ کریں۔

واللہ اعلم۔

الاسلام سوال و جواب

20577